

سَوِي سَوِي سَوِي:

*[Handwritten signature]*  
03/03/2025

مَدِينَةُ مَكَّةَ الْمُحَرَّمَةُ دَعْوَةُ سَوِي سَوِي سَوِي

دَعْوَةُ سَوِي سَوِي سَوِي دَعْوَةُ سَوِي سَوِي سَوِي

سَوِي سَوِي سَوِي: دَعْوَةُ سَوِي سَوِي سَوِي

رَسْمِيَّةً قَرَارِيَّةً

*[Handwritten signature]*

مَدِينَةُ مَكَّةَ: 02 رَجَبِ 1446

مَدِينَةُ مَكَّةَ الْمُحَرَّمَةُ دَعْوَةُ سَوِي سَوِي سَوِي	
921	مَدِينَةُ مَكَّةَ: 02
15:25	02/03/25
رَسْمِيَّةً قَرَارِيَّةً	
<i>[Handwritten signature]</i>	
مَدِينَةُ مَكَّةَ: 02 رَجَبِ 1446	

## دستورالعمل

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل اجرایی فرآیند اعتبار سنجی اسناد  
مکتوب را تدوین کرده است. این دستورالعمل در راستای اهداف سازمان و با توجه به نیازهای موجود تدوین  
شده است. این دستورالعمل در راستای اهداف سازمان و با توجه به نیازهای موجود تدوین شده است.  
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل اجرایی فرآیند اعتبار سنجی اسناد  
مکتوب را تدوین کرده است. این دستورالعمل در راستای اهداف سازمان و با توجه به نیازهای موجود تدوین  
شده است. این دستورالعمل در راستای اهداف سازمان و با توجه به نیازهای موجود تدوین شده است.

دستورالعمل اعتبار سنجی اسناد

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی

02 شهریور 1395





عەسەرىيە ئىلىمىي ئىشلىرىنى تەتقىقات قىلىش ئىنىستىتۇتى

تەتقىقات

تەتقىقات

1. .... مەدەنىيەت ئىشلىرى
1. .... تەتقىقات
2. .... ئىجتىمائىي ئىشلىرى
3. .... عەسەرىيە ئىلىمىي ئىشلىرى

تەتقىقات

ئىجتىمائىي ئىشلىرى

4. .... مەدەنىيەت ئىشلىرى
4. .... ئىجتىمائىي ئىشلىرى
7. .... ئىجتىمائىي ئىشلىرى

تەتقىقات

عەسەرىيە ئىلىمىي ئىشلىرى

8. .... مەدەنىيەت ئىشلىرى
9. .... ئىجتىمائىي ئىشلىرى
11. .... ئىجتىمائىي ئىشلىرى
14. .... ئىجتىمائىي ئىشلىرى
15. .... ئىجتىمائىي ئىشلىرى
15. .... ئىجتىمائىي ئىشلىرى
16. .... ئىجتىمائىي ئىشلىرى
16. .... ئىجتىمائىي ئىشلىرى
17. .... ئىجتىمائىي ئىشلىرى
17. .... ئىجتىمائىي ئىشلىرى
17. .... ئىجتىمائىي ئىشلىرى
19. .... ئىجتىمائىي ئىشلىرى
20. .... ئىجتىمائىي ئىشلىرى
21. .... ئىجتىمائىي ئىشلىرى
22. .... ئىجتىمائىي ئىشلىرى

- 26..... 23. 23..... 23. 23..... 23. 23..... 23. 23..... 23. 23..... 23.
- 27..... 24. 24..... 24. 24..... 24. 24..... 24. 24..... 24. 24..... 24.
- 27..... 25. 25..... 25. 25..... 25. 25..... 25. 25..... 25. 25..... 25.
- 29..... 26. 26..... 26. 26..... 26. 26..... 26. 26..... 26. 26..... 26.
- 31..... 27. 27..... 27. 27..... 27. 27..... 27. 27..... 27. 27..... 27.

**26**

**26. 26..... 26. 26..... 26. 26..... 26. 26..... 26. 26..... 26.**

- 33..... 28. 28..... 28. 28..... 28. 28..... 28. 28..... 28. 28..... 28.
- 36..... 29. 29..... 29. 29..... 29. 29..... 29. 29..... 29. 29..... 29.
- 37..... 30. 30..... 30. 30..... 30. 30..... 30. 30..... 30. 30..... 30.
- 37..... 31. 31..... 31. 31..... 31. 31..... 31. 31..... 31. 31..... 31.
- 38..... 32. 32..... 32. 32..... 32. 32..... 32. 32..... 32. 32..... 32.
- 39..... 33. 33..... 33. 33..... 33. 33..... 33. 33..... 33. 33..... 33.
- 40..... 34. 34..... 34. 34..... 34. 34..... 34. 34..... 34. 34..... 34.

**26**

**26. 26..... 26. 26..... 26. 26..... 26. 26..... 26. 26..... 26.**

- 42..... 35. 35..... 35. 35..... 35. 35..... 35. 35..... 35. 35..... 35.
- 43..... 36. 36..... 36. 36..... 36. 36..... 36. 36..... 36. 36..... 36.
- 46..... 37. 37..... 37. 37..... 37. 37..... 37. 37..... 37. 37..... 37.
- 47..... 38. 38..... 38. 38..... 38. 38..... 38. 38..... 38. 38..... 38.
- 49..... 39. 39..... 39. 39..... 39. 39..... 39. 39..... 39. 39..... 39.
- 50..... 40. 40..... 40. 40..... 40. 40..... 40. 40..... 40. 40..... 40.
- 50..... 41. 41..... 41. 41..... 41. 41..... 41. 41..... 41. 41..... 41.
- 51..... 42. 42..... 42. 42..... 42. 42..... 42. 42..... 42. 42..... 42.
- 52..... 43. 43..... 43. 43..... 43. 43..... 43. 43..... 43. 43..... 43.
- 53..... 44. 44..... 44. 44..... 44. 44..... 44. 44..... 44. 44..... 44.
- 54..... 45. 45..... 45. 45..... 45. 45..... 45. 45..... 45. 45..... 45.







71. 85.....  
.....

**سُورَةُ التَّوْبَةِ**

**سُورَةُ التَّوْبَةِ**

72. 85.....  
.....

73.....  
.....

74.....  
.....

**سُورَةُ النُّورِ**

**سُورَةُ النُّورِ**

75.....  
.....

76.....  
.....

77.....  
.....

78.....  
.....

79.....  
.....

80.....  
.....

81.....  
.....

82.....  
.....

83.....  
.....

**سُورَةُ الْفُرْقَانِ**

**سُورَةُ الْفُرْقَانِ**

84.....  
.....

85.....  
.....

86.....  
.....

87.....  
.....

88.....  
.....

89.....  
.....











ترويض

تجربہ ریزی

5. سہ ماہی کے نرسنگ اور ایئر  
 تجزیہ کے طریقے کے بارے میں  
 تجزیہ اور نرسنگ کے طریقے کے بارے میں  
 ڈیٹا کو جمع کرنے اور تجزیہ کرنے کے طریقے۔

6. تجربہ ریزی  
 ڈیٹا کو جمع کرنے اور تجزیہ کرنے کے طریقے۔

(ا) ایسا مقرر کرنے کے لیے  
 جاننا اور جاننے کے لیے  
 ڈیٹا کو جمع کرنے اور تجزیہ کرنے کے طریقے  
 کے بارے میں جاننا اور جاننے کے لیے

(ب) ڈیٹا کو جمع کرنے اور تجزیہ کرنے کے طریقے  
 کے بارے میں جاننا اور جاننے کے لیے

(س) ڈیٹا کو جمع کرنے اور تجزیہ کرنے کے طریقے  
 کے بارے میں جاننا اور جاننے کے لیے

(د) ڈیٹا کو جمع کرنے اور تجزیہ کرنے کے طریقے  
 کے بارے میں جاننا اور جاننے کے لیے



*Handwritten signature in blue ink.*











අර්ථනිරුද්ධතාවය, ඒ කාරණයන්හි බැරපවුරු.

(අ) ක්ෂුද්‍ර ලේඛන (අ) ක්ෂුද්‍ර ලේඛන බැරපවුරු, ක්ෂුද්‍ර ලේඛන බැරපවුරු බැරපවුරු, ක්ෂුද්‍ර ලේඛන බැරපවුරු බැරපවුරු, ක්ෂුද්‍ර ලේඛන බැරපවුරු බැරපවුරු, ක්ෂුද්‍ර ලේඛන බැරපවුරු බැරපවුරු.

(ආ) ක්ෂුද්‍ර ලේඛන (ආ) ක්ෂුද්‍ර ලේඛන බැරපවුරු, ක්ෂුද්‍ර ලේඛන බැරපවුරු බැරපවුරු, ක්ෂුද්‍ර ලේඛන බැරපවුරු බැරපවුරු, ක්ෂුද්‍ර ලේඛන බැරපවුරු බැරපවුරු, ක්ෂුද්‍ර ලේඛන බැරපවුරු බැරපවුරු.

**සමාප්තිය**  
**සමාප්තිය අනුමැතිය**

8. (අ) සමාප්තිය අනුමැතිය, සමාප්තිය අනුමැතිය, සමාප්තිය අනුමැතිය, සමාප්තිය අනුමැතිය, සමාප්තිය අනුමැතිය, සමාප්තිය අනුමැතිය, සමාප්තිය අනුමැතිය, සමාප්තිය අනුමැතිය.

(1) සමාප්තිය අනුමැතිය, සමාප්තිය අනුමැතිය, සමාප්තිය අනුමැතිය, සමාප්තිය අනුමැතිය, සමාප්තිය අනුමැතිය, සමාප්තිය අනුමැතිය, සමාප්තිය අනුමැතිය, සමාප්තිය අනුමැතිය.

(2) සමාප්තිය අනුමැතිය, සමාප්තිය අනුමැතිය, සමාප්තිය අනුමැතිය, සමාප්තිය අනුමැතිය, සමාප්තිය අනුමැතිය, සමාප්තිය අනුමැතිය, සමාප්තිය අනුමැතිය, සමාප්තිය අනුමැතිය.



*Handwritten signature in blue ink.*



i. اړیکو د پاملرنې د لاندې لاسلیک شويو...

ii. د پاملرنې د لاندې لاسلیک شويو...

(س) د پاملرنې د لاندې لاسلیک شويو... د پاملرنې د لاندې لاسلیک شويو... د پاملرنې د لاندې لاسلیک شويو...

(س) د پاملرنې د لاندې لاسلیک شويو... د پاملرنې د لاندې لاسلیک شويو... د پاملرنې د لاندې لاسلیک شويو...

(س) د پاملرنې د لاندې لاسلیک شويو... د پاملرنې د لاندې لاسلیک شويو... د پاملرنې د لاندې لاسلیک شويو...

(س) د پاملرنې د لاندې لاسلیک شويو... د پاملرنې د لاندې لاسلیک شويو... د پاملرنې د لاندې لاسلیک شويو...

د پاملرنې د لاندې لاسلیک شويو... د پاملرنې د لاندې لاسلیک شويو... د پاملرنې د لاندې لاسلیک شويو...



Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.











دستورالعملی که در این مورد ذکر شده است؛

(4) به منظور تعیین وقت و مکانی که در آن قرار می‌گیرد، در این مورد دستورالعملی که در این مورد ذکر شده است؛

(5) وقت و مکانی که در آن قرار می‌گیرد، در این مورد دستورالعملی که در این مورد ذکر شده است؛

(6) این دستورالعملی که در آن قرار می‌گیرد، در این مورد دستورالعملی که در این مورد ذکر شده است؛

(ب) این دستورالعملی که در آن قرار می‌گیرد، در این مورد دستورالعملی که در این مورد ذکر شده است؛

(ج) در این مورد دستورالعملی که در این مورد ذکر شده است؛



Handwritten signature in blue ink.













انگیزاننده به سرویس مذکور؛

(3) ان به سرویس مذکور ان به سرویس ان به سرویس مذکور؛

مذکور ان به سرویس مذکور ان به سرویس مذکور ان به سرویس مذکور؛

(4) ان به سرویس مذکور ان به سرویس مذکور ان به سرویس مذکور؛

مذکور ان به سرویس مذکور ان به سرویس مذکور ان به سرویس مذکور؛

(5) ان به سرویس مذکور ان به سرویس مذکور ان به سرویس مذکور؛

مذکور ان به سرویس مذکور ان به سرویس مذکور ان به سرویس مذکور؛

(6) ان به سرویس مذکور ان به سرویس مذکور ان به سرویس مذکور؛

مذکور ان به سرویس مذکور ان به سرویس مذکور ان به سرویس مذکور؛

(س) ان به سرویس مذکور ان به سرویس مذکور ان به سرویس مذکور؛

مذکور ان به سرویس مذکور ان به سرویس مذکور ان به سرویس مذکور؛

(س) ان به سرویس مذکور ان به سرویس مذکور ان به سرویس مذکور؛

مذکور ان به سرویس مذکور ان به سرویس مذکور ان به سرویس مذکور؛



Handwritten signature in blue ink at the bottom left corner.











21. (1) (a) The Government may, by order, make such regulations as it may think fit for carrying into effect the provisions of this Act, and may, in particular, make regulations for the purpose of—

21. (1) (a) The Government may, by order, make such regulations as it may think fit for carrying into effect the provisions of this Act, and may, in particular, make regulations for the purpose of—

(1) (a) The Government may, by order, make such regulations as it may think fit for carrying into effect the provisions of this Act, and may, in particular, make regulations for the purpose of—

(2) The Government may, by order, make such regulations as it may think fit for carrying into effect the provisions of this Act, and may, in particular, make regulations for the purpose of—

(3) The Government may, by order, make such regulations as it may think fit for carrying into effect the provisions of this Act, and may, in particular, make regulations for the purpose of—

(4) The Government may, by order, make such regulations as it may think fit for carrying into effect the provisions of this Act, and may, in particular, make regulations for the purpose of—

(5) The Government may, by order, make such regulations as it may think fit for carrying into effect the provisions of this Act, and may, in particular, make regulations for the purpose of—

(6) The Government may, by order, make such regulations as it may think fit for carrying into effect the provisions of this Act, and may, in particular, make regulations for the purpose of—



Handwritten signature in blue ink.



20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100



Handwritten signature in blue ink.

سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن!

(4) ئۇ سەرگەمەن ئۇ سەرگەمەن ئۇ سەرگەمەن ئۇ سەرگەمەن  
سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن، ئۇ سەرگەمەن  
سەرگەمەن.

(س) سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن،  
(س) ئۇ (1)، سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن (4) سەرگەمەن  
سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن،  
سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن،  
سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن،  
سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن،  
سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن.

(1) سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن  
سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن،  
سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن،  
سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن،  
سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن،  
سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن.

(2) ئۇ سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن  
سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن!

(3) ئۇ سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن  
سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن.

(س) سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن (3) سەرگەمەن  
سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن سەرگەمەن،



*Handwritten signature in blue ink.*



بەدەن تەبىئىيەت پەنلەر ئىنستىتۇتىدا، بۇ پەنلەرنى ئۆگەتكەن ئوقۇتقۇچىلارنىڭ قاتارىغا كىرىشىمۇ كېرەك. شۇنداقلا، ئۇلارنىڭ ئىشلىرىنى تەكشۈرۈش ۋە تەسۋىر قىلىش كېرەك.

(م) بۇ كۆرۈنۈش (م) نى 2) قۇرۇلۇش پىلانىدا كۆرسىتىش كېرەك. ئۇنىڭ ئىشلىرىنى تەكشۈرۈش ۋە تەسۋىر قىلىش كېرەك. شۇنداقلا، ئۇلارنىڭ ئىشلىرىنى تەكشۈرۈش ۋە تەسۋىر قىلىش كېرەك.

(م) بۇ كۆرۈنۈش (م) نى 34 قۇرۇلۇش پىلانىدا كۆرسىتىش كېرەك. ئۇنىڭ ئىشلىرىنى تەكشۈرۈش ۋە تەسۋىر قىلىش كېرەك. شۇنداقلا، ئۇلارنىڭ ئىشلىرىنى تەكشۈرۈش ۋە تەسۋىر قىلىش كېرەك.

(م) بۇ كۆرۈنۈش (م) نى 1) قۇرۇلۇش پىلانىدا كۆرسىتىش كېرەك. ئۇنىڭ ئىشلىرىنى تەكشۈرۈش ۋە تەسۋىر قىلىش كېرەك. شۇنداقلا، ئۇلارنىڭ ئىشلىرىنى تەكشۈرۈش ۋە تەسۋىر قىلىش كېرەك.

(م) بۇ كۆرۈنۈش (م) نى 2) قۇرۇلۇش پىلانىدا كۆرسىتىش كېرەك. ئۇنىڭ ئىشلىرىنى تەكشۈرۈش ۋە تەسۋىر قىلىش كېرەك. شۇنداقلا، ئۇلارنىڭ ئىشلىرىنى تەكشۈرۈش ۋە تەسۋىر قىلىش كېرەك.

(م) بۇ كۆرۈنۈش (م) نى 3) قۇرۇلۇش پىلانىدا كۆرسىتىش كېرەك. ئۇنىڭ ئىشلىرىنى تەكشۈرۈش ۋە تەسۋىر قىلىش كېرەك.



وَأَمَّا مَا يَأْتِي فِي الْمَدِينَةِ مَتَدَفَعَةً لِيُؤْتُوا النَّاسَ حِسَابَهُمْ فِي الْيَوْمِ الَّذِي فِيهِ يُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

فِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
فِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
فِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

23.

(أ)

فِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
فِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
فِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(ب)

فِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
فِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
فِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(ج)

فِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
فِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
فِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(1)

فِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
فِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(2)

فِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
فِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
فِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ



Handwritten signature in blue ink at the bottom left corner.











ii. ڏيکاريل ٿيل ڏانهن واپس موٽڻ جو ڏيکاريل ٿيل  
ڪو به ڏيکاريل ٿيل.

(2) ڏيکاريل ٿيل ڏانهن واپس موٽڻ جو ڏيکاريل ٿيل  
ڏيکاريل ٿيل ڏانهن واپس موٽڻ جو ڏيکاريل ٿيل  
ڏيکاريل ٿيل ڏانهن واپس موٽڻ جو ڏيکاريل ٿيل.

(س) ڏيکاريل ٿيل (س) ۽ (1) ۽ (i) وٽس سرڪاري ڏيکاريل ٿيل  
ڏيکاريل ٿيل ڏانهن واپس موٽڻ جو ڏيکاريل ٿيل ڏانهن واپس موٽڻ جو ڏيکاريل ٿيل 10  
وٽس ڏيکاريل ٿيل (س) ۽ (4) وٽس سرڪاري ڏيکاريل ٿيل  
ڏيکاريل ٿيل.

(س) ڏيکاريل ٿيل (س) ۽ (1) ۽ (ii) وٽس سرڪاري ڏيکاريل ٿيل  
ڏيکاريل ٿيل ڏانهن واپس موٽڻ جو ڏيکاريل ٿيل ڏانهن واپس موٽڻ جو ڏيکاريل ٿيل  
ڏيکاريل ٿيل ڏانهن واپس موٽڻ جو ڏيکاريل ٿيل ڏانهن واپس موٽڻ جو ڏيکاريل ٿيل.

(س) ڏيکاريل ٿيل (س) ۽ (1) وٽس سرڪاري ڏيکاريل ٿيل  
ڏيکاريل ٿيل ڏانهن واپس موٽڻ جو ڏيکاريل ٿيل ڏانهن واپس موٽڻ جو ڏيکاريل ٿيل  
ڏيکاريل ٿيل ڏانهن واپس موٽڻ جو ڏيکاريل ٿيل ڏانهن واپس موٽڻ جو ڏيکاريل ٿيل.

(س) ڏيکاريل ٿيل (س) ۽ (2) وٽس سرڪاري ڏيکاريل ٿيل  
ڏيکاريل ٿيل ڏانهن واپس موٽڻ جو ڏيکاريل ٿيل ڏانهن واپس موٽڻ جو ڏيکاريل ٿيل  
ڏيکاريل ٿيل ڏانهن واپس موٽڻ جو ڏيکاريل ٿيل ڏانهن واپس موٽڻ جو ڏيکاريل ٿيل  
ڏيکاريل ٿيل ڏانهن واپس موٽڻ جو ڏيکاريل ٿيل ڏانهن واپس موٽڻ جو ڏيکاريل ٿيل  
ڏيکاريل ٿيل ڏانهن واپس موٽڻ جو ڏيکاريل ٿيل ڏانهن واپس موٽڻ جو ڏيکاريل ٿيل.



*Handwritten signature in blue ink.*





تصريحاً عن طريقه.

(ب) في حالة (أ) فإنها تعتبر كقوله في قوله تعالى: "وَأَمَّا السَّاعِرَاتُ فَمَن بَدَّلَهَا بِيَدِهَا فَلَا يَخْتَارُ" (سورة النور: 24).

(1) إذا كان الزوج قد تزوج من امرأة أخرى بعد أن تزوج من الأولى، فإن الأولى تعتبر كقوله في قوله تعالى: "وَأَمَّا السَّاعِرَاتُ فَمَن بَدَّلَهَا بِيَدِهَا فَلَا يَخْتَارُ" (سورة النور: 24).

(2) إذا كان الزوج قد تزوج من امرأة أخرى بعد أن تزوج من الأولى، فإن الأولى تعتبر كقوله في قوله تعالى: "وَأَمَّا السَّاعِرَاتُ فَمَن بَدَّلَهَا بِيَدِهَا فَلَا يَخْتَارُ" (سورة النور: 24).

(3) إذا كان الزوج قد تزوج من امرأة أخرى بعد أن تزوج من الأولى، فإن الأولى تعتبر كقوله في قوله تعالى: "وَأَمَّا السَّاعِرَاتُ فَمَن بَدَّلَهَا بِيَدِهَا فَلَا يَخْتَارُ" (سورة النور: 24).

(4) إذا كان الزوج قد تزوج من امرأة أخرى بعد أن تزوج من الأولى، فإن الأولى تعتبر كقوله في قوله تعالى: "وَأَمَّا السَّاعِرَاتُ فَمَن بَدَّلَهَا بِيَدِهَا فَلَا يَخْتَارُ" (سورة النور: 24).

(5) إذا كان الزوج قد تزوج من امرأة أخرى بعد أن تزوج من الأولى، فإن الأولى تعتبر كقوله في قوله تعالى: "وَأَمَّا السَّاعِرَاتُ فَمَن بَدَّلَهَا بِيَدِهَا فَلَا يَخْتَارُ" (سورة النور: 24).

(ب) في حالة (أ) فإنها تعتبر كقوله في قوله تعالى: "وَأَمَّا السَّاعِرَاتُ فَمَن بَدَّلَهَا بِيَدِهَا فَلَا يَخْتَارُ" (سورة النور: 24).



*Handwritten signature in blue ink.*











سھڻو ٿيڻ جو ڪو به ڪوئي ڪم ڪري ٿو ته ڪو به ڪم ڪري ٿو.  
ڪم ڪري ٿو ته ڪو به ڪم ڪري ٿو.

(ب) ۾ ڏنل ڪم (ب) ۾ ڪم ڪري ٿو ته ڪو به ڪم ڪري ٿو.  
ڪم ڪري ٿو ته ڪو به ڪم ڪري ٿو.  
ڪم ڪري ٿو ته ڪو به ڪم ڪري ٿو.  
ڪم ڪري ٿو ته ڪو به ڪم ڪري ٿو.  
ڪم ڪري ٿو ته ڪو به ڪم ڪري ٿو.  
ڪم ڪري ٿو ته ڪو به ڪم ڪري ٿو.

29. (ب) ۾ ڏنل ڪم ڪري ٿو ته ڪو به ڪم ڪري ٿو.  
ڪم ڪري ٿو ته ڪو به ڪم ڪري ٿو.  
ڪم ڪري ٿو ته ڪو به ڪم ڪري ٿو.  
ڪم ڪري ٿو ته ڪو به ڪم ڪري ٿو.

(ب) ۾ ڏنل ڪم ڪري ٿو ته ڪو به ڪم ڪري ٿو.  
ڪم ڪري ٿو ته ڪو به ڪم ڪري ٿو.  
ڪم ڪري ٿو ته ڪو به ڪم ڪري ٿو.

(ب) ۾ ڏنل ڪم ڪري ٿو ته ڪو به ڪم ڪري ٿو.  
ڪم ڪري ٿو ته ڪو به ڪم ڪري ٿو.  
ڪم ڪري ٿو ته ڪو به ڪم ڪري ٿو.  
ڪم ڪري ٿو ته ڪو به ڪم ڪري ٿو.  
ڪم ڪري ٿو ته ڪو به ڪم ڪري ٿو.

(ب) ۾ ڏنل ڪم ڪري ٿو ته ڪو به ڪم ڪري ٿو.  
ڪم ڪري ٿو ته ڪو به ڪم ڪري ٿو.  
ڪم ڪري ٿو ته ڪو به ڪم ڪري ٿو.







(س) د ډاګړې کرښې مخسپڅېرناکړنې ته وګرځو  
مخسپڅېرناکړنې ته اړې رسنې، د ګڼنې کرښې ته  
د ډاګړې اړوندې څو څو کرښې جوړې شوې.

(س) د ډاګړې کرښې مخسپڅېرناکړنې ته وګرځو  
مخسپڅېرناکړنې ته اړې رسنې، مخسپڅېرناکړنې ته اړې  
رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته  
اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته  
اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته  
(س) د ډاګړې کرښې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته  
اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته.

د ګڼنې 31 ولس ډاګړې کرښې مخسپڅېرناکړنې ته  
وګرځو، د ډاګړې کرښې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته  
اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته  
د ګڼنې کرښې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته  
کرښې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته.

(س) د ډاګړې کرښې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته  
اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته  
اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته  
اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته  
د ګڼنې کرښې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته  
اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته.

(س) د ډاګړې کرښې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته  
د ډاګړې کرښې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته  
اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته  
اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته  
د ګڼنې کرښې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته  
اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته اړې رسنې ته.











رَدَّ حُجَّاتِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَهُوَ فِي سَائِرِ حُرُوفِ حَجَّاتِهِ  
 فِي حُرُوفِ سَائِرِ حُرُوفِ حَجَّاتِهِ، وَهُوَ فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ  
 فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ، وَهُوَ فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ  
 وَهُوَ فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ

(6) بِ- اِنْ سَأَلَ حَجَّاتِهِ فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ  
 فَيَسْأَلُ حَجَّاتِهِ فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ  
 فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ، وَهُوَ فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ  
 فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ

(س) فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ (ر) فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ  
 فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ، وَهُوَ فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ  
 فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ

(س) فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ (ر) فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ  
 فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ، وَهُوَ فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ  
 فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ

(س) فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ  
 فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ، وَهُوَ فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ  
 فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ

(س) فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ  
 فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ، وَهُوَ فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ  
 فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ

(س) فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ (س) فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ  
 فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ، وَهُوَ فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ  
 فِي حُرُوفِ حَجَّاتِهِ



*Handwritten signature in blue ink.*







مجلس سیدھے پیمانوں پر اور جو ویکٹوریوں سے ہو۔

(س) جہ کی ترقی (ر) سرفہ (س) کی ترقی اور ترقی پیمانوں پر اور جو ویکٹوریوں سے ہو۔

(س) جہ کی ترقی (س) کی ترقی اور ترقی پیمانوں پر اور جو ویکٹوریوں سے ہو۔

(س) جہ کی ترقی اور ترقی پیمانوں پر اور جو ویکٹوریوں سے ہو۔

(س) جہ کی ترقی (س) کی ترقی اور ترقی پیمانوں پر اور جو ویکٹوریوں سے ہو۔

(س) جہ کی ترقی (س) کی ترقی اور ترقی پیمانوں پر اور جو ویکٹوریوں سے ہو۔



*Handwritten signature in blue ink.*















(ب) قروا ربيما في الدنيا والآخرين في سعة ما نزلنا من السماء من الغمام وما جعلنا من السماء غماما إلا ذررا متناثرا وما جعلنا من السماء غماما إلا سحابة متراصة وما جعلنا من السماء غماما إلا سحابة متراصة وما جعلنا من السماء غماما إلا سحابة متراصة

(ا) قروا ربيما في الدنيا والآخرين في سعة ما نزلنا من السماء من الغمام وما جعلنا من السماء غماما إلا ذررا متناثرا وما جعلنا من السماء غماما إلا سحابة متراصة وما جعلنا من السماء غماما إلا سحابة متراصة

39. (ا) قروا ربيما في الدنيا والآخرين في سعة ما نزلنا من السماء من الغمام وما جعلنا من السماء غماما إلا ذررا متناثرا وما جعلنا من السماء غماما إلا سحابة متراصة وما جعلنا من السماء غماما إلا سحابة متراصة

(س) قروا ربيما في الدنيا والآخرين في سعة ما نزلنا من السماء من الغمام وما جعلنا من السماء غماما إلا ذررا متناثرا وما جعلنا من السماء غماما إلا سحابة متراصة وما جعلنا من السماء غماما إلا سحابة متراصة

(س) قروا ربيما في الدنيا والآخرين في سعة ما نزلنا من السماء من الغمام وما جعلنا من السماء غماما إلا ذررا متناثرا وما جعلنا من السماء غماما إلا سحابة متراصة وما جعلنا من السماء غماما إلا سحابة متراصة



*Handwritten signature in blue ink.*









«...»  
...»

(ب) ...»  
...»  
...»  
...»  
...»

(د) ...»  
...»  
...»  
...»  
...»

(ج) ...»  
...»  
...»  
...»  
...»  
...»

(ر) ...»  
...»  
...»

.43

«...»  
...»





دوسرو، د ګڼ شمېرې قريشو رګر يوازې د ناسه اړه  
کوي او د ناسه په ناسه سره د ناسه سره سره  
د ناسه سره سره.

(س) د ناسه سره سره د ناسه سره سره د ناسه سره سره  
د ناسه سره سره د ناسه سره سره.

(س) 44. د ناسه سره سره د ناسه سره سره د ناسه سره سره  
د ناسه سره سره د ناسه سره سره د ناسه سره سره  
د ناسه سره سره د ناسه سره سره د ناسه سره سره  
د ناسه سره سره د ناسه سره سره.

(س) د ناسه سره سره د ناسه سره سره د ناسه سره سره  
د ناسه سره سره د ناسه سره سره د ناسه سره سره  
د ناسه سره سره د ناسه سره سره د ناسه سره سره  
د ناسه سره سره د ناسه سره سره د ناسه سره سره  
د ناسه سره سره د ناسه سره سره د ناسه سره سره  
د ناسه سره سره د ناسه سره سره.

(س) د ناسه سره سره د ناسه سره سره د ناسه سره سره  
د ناسه سره سره د ناسه سره سره د ناسه سره سره  
د ناسه سره سره د ناسه سره سره د ناسه سره سره  
د ناسه سره سره د ناسه سره سره د ناسه سره سره  
د ناسه سره سره د ناسه سره سره د ناسه سره سره  
د ناسه سره سره د ناسه سره سره.

(س) د ناسه سره سره د ناسه سره سره د ناسه سره سره  
د ناسه سره سره د ناسه سره سره د ناسه سره سره  
د ناسه سره سره د ناسه سره سره د ناسه سره سره  
د ناسه سره سره د ناسه سره سره د ناسه سره سره  
د ناسه سره سره د ناسه سره سره د ناسه سره سره  
د ناسه سره سره د ناسه سره سره.



























سەرپەرشتی وێنا ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر

50.

(ا) سەرپەرشتی وێنا ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر

(ب) سەرپەرشتی وێنا ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر

(ج) سەرپەرشتی وێنا ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر

(د) سەرپەرشتی وێنا ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر

سەرپەرشتی وێنا ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر

51.

(ا) سەرپەرشتی وێنا ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر

(ب) سەرپەرشتی وێنا ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر  
سەرۆک ھەتھەنێر



Handwritten signature in blue ink.







(4) ان وقت بر ملا ہو کر رسد ہو کر ہی جے سرگرم  
 کرنا پڑے گا۔ اس لئے اس سے پہلے ہی جے سرگرم  
 کرنا پڑے گا۔ اس لئے اس سے پہلے ہی جے سرگرم

(5) ان وقت بر ملا ہو کر رسد ہو کر ہی جے سرگرم  
 کرنا پڑے گا۔ اس لئے اس سے پہلے ہی جے سرگرم  
 کرنا پڑے گا۔ اس لئے اس سے پہلے ہی جے سرگرم

(6) ان وقت بر ملا ہو کر رسد ہو کر ہی جے سرگرم  
 کرنا پڑے گا۔ اس لئے اس سے پہلے ہی جے سرگرم  
 کرنا پڑے گا۔ اس لئے اس سے پہلے ہی جے سرگرم

52. (س) ان وقت بر ملا ہو کر رسد ہو کر ہی جے سرگرم  
 کرنا پڑے گا۔ اس لئے اس سے پہلے ہی جے سرگرم  
 کرنا پڑے گا۔ اس لئے اس سے پہلے ہی جے سرگرم  
 کرنا پڑے گا۔ اس لئے اس سے پہلے ہی جے سرگرم  
 کرنا پڑے گا۔ اس لئے اس سے پہلے ہی جے سرگرم

(س) ان وقت بر ملا ہو کر رسد ہو کر ہی جے سرگرم  
 کرنا پڑے گا۔ اس لئے اس سے پہلے ہی جے سرگرم  
 کرنا پڑے گا۔ اس لئے اس سے پہلے ہی جے سرگرم  
 کرنا پڑے گا۔ اس لئے اس سے پہلے ہی جے سرگرم

(س) ان وقت بر ملا ہو کر رسد ہو کر ہی جے سرگرم  
 کرنا پڑے گا۔ اس لئے اس سے پہلے ہی جے سرگرم  
 کرنا پڑے گا۔ اس لئے اس سے پہلے ہی جے سرگرم



*Handwritten signature in blue ink.*















فَسَيُجَازِيهِمْ فِي الْعَذَابِ أَلْفَ مَرَّةٍ؛

(5) اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَاطِرًا مُّجْرِمِينَ  
فَسَيُجَازِيهِمْ فِي الْعَذَابِ اَلْفَ مَرَّةٍ؛

(6) اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَاطِرًا مُّجْرِمِينَ  
فَسَيُجَازِيهِمْ فِي الْعَذَابِ اَلْفَ مَرَّةٍ؛

(7) اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَاطِرًا مُّجْرِمِينَ  
فَسَيُجَازِيهِمْ فِي الْعَذَابِ اَلْفَ مَرَّةٍ؛

(8) اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَاطِرًا مُّجْرِمِينَ  
فَسَيُجَازِيهِمْ فِي الْعَذَابِ اَلْفَ مَرَّةٍ؛

(9) اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَاطِرًا مُّجْرِمِينَ  
فَسَيُجَازِيهِمْ فِي الْعَذَابِ اَلْفَ مَرَّةٍ؛

(س) جِ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ  
فَسَيُجَازِيهِمْ فِي الْعَذَابِ اَلْفَ مَرَّةٍ؛  
(س) اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَاطِرًا مُّجْرِمِينَ  
فَسَيُجَازِيهِمْ فِي الْعَذَابِ اَلْفَ مَرَّةٍ؛  
(س) اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَاطِرًا مُّجْرِمِينَ  
فَسَيُجَازِيهِمْ فِي الْعَذَابِ اَلْفَ مَرَّةٍ؛  
فَسَيُجَازِيهِمْ فِي الْعَذَابِ اَلْفَ مَرَّةٍ؛



Handwritten signature in blue ink at the bottom left corner.

چسپى سىزى ھوقۇق ساسىدا تىزىملىك قىلىنۇ.

(س) چى ۋىيەتنام (س) تىزىملىك قىلىنۇ چى سىزى سىزى سىزى  
ھوقۇق سىزى سىزى چى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى  
چى سىزى سىزى ساسىدا تىزىملىك قىلىنۇ، چى سىزى سىزى سىزى  
ھوقۇق سىزى سىزى چى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى  
ھوقۇق سىزى سىزى چى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى  
ساسىدا تىزىملىك قىلىنۇ، ھوقۇق سىزى سىزى چى سىزى سىزى  
ھوقۇق سىزى سىزى چى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى

56. (س) چى ۋىيەتنام چى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى  
ھوقۇق سىزى سىزى چى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى  
ھوقۇق سىزى سىزى چى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى  
ھوقۇق سىزى سىزى چى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى

(س) چى ۋىيەتنام چى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى  
ھوقۇق سىزى سىزى چى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى  
ھوقۇق سىزى سىزى چى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى

(س) چى ۋىيەتنام چى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى  
ھوقۇق سىزى سىزى چى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى  
ھوقۇق سىزى سىزى چى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى  
ھوقۇق سىزى سىزى چى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى

(1) چى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى  
ھوقۇق سىزى سىزى چى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى

(2) چى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى  
ھوقۇق سىزى سىزى چى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى سىزى



Handwritten signature in blue ink.















































(1) د ځيښتې كړنې مخسره پخلاينې او چاړې چاړې،  
چاړې چاړې او چاړې او چاړې چاړې!

(2) چاړې چاړې، چاړې چاړې او چاړې چاړې د  
ځيښتې كړنې مخسره پخلاينې او چاړې چاړې!

(3) چاړې چاړې چاړې چاړې او چاړې چاړې د  
ځيښتې كړنې زړه چاړې چاړې او چاړې چاړې!

(4) اوسه سوځولې او چاړې!

(5) څو چاړې چاړې چاړې چاړې د ځيښتې كړنې  
مخسره پخلاينې او چاړې چاړې او چاړې چاړې  
چاړې چاړې!

(6) چاړې چاړې لاس او چاړې چاړې، چاړې چاړې د ځيښتې  
كړنې زړه چاړې چاړې او چاړې چاړې!

(7) د ځيښتې كړنې زړه چاړې چاړې لاس او چاړې  
اوسه سوځولې او چاړې چاړې.

(س) د ځيښتې كړنې (س) د ځيښتې كړنې او چاړې چاړې  
چاړې چاړې، چاړې چاړې او چاړې چاړې. او چاړې  
چاړې چاړې چاړې او چاړې چاړې او چاړې چاړې  
چاړې چاړې چاړې او چاړې چاړې او چاړې چاړې.

(س) د ځيښتې كړنې چاړې چاړې او چاړې چاړې  
چاړې چاړې او چاړې چاړې او چاړې چاړې. او چاړې  
او چاړې چاړې چاړې او چاړې چاړې او چاړې چاړې  
او چاړې چاړې چاړې او چاړې چاړې او چاړې چاړې.

























چېرېښه پيژندنې لارښوونې لاندې لوستول.

(س) د ژباړې (س) ې لارښوونې چېرېښه پيژندنې لاندې لوستول  
 لارښوونې، د لوستونکو لخوا لوستول او لوستونکو لخوا لوستول  
 چېرېښه پيژندنې لارښوونې، د لوستونکو لخوا لوستول او لوستونکو لخوا لوستول  
 د لوستونکو لخوا لوستول او لوستونکو لخوا لوستول.

د ژباړې لارښوونې 86. (س) د ژباړې لارښوونې لاندې لوستول او لوستونکو لخوا لوستول  
 د ژباړې لارښوونې لاندې لوستول او لوستونکو لخوا لوستول.  
 چېرېښه پيژندنې لارښوونې.

(س) د ژباړې لارښوونې لاندې لوستول او لوستونکو لخوا لوستول  
 چېرېښه پيژندنې لارښوونې، د لوستونکو لخوا لوستول او لوستونکو لخوا لوستول  
 30 (چېرېښه) لارښوونې لاندې لوستول او لوستونکو لخوا لوستول  
 د لوستونکو لخوا لوستول او لوستونکو لخوا لوستول.

د ژباړې لارښوونې 87. (س) د ژباړې لارښوونې لاندې لوستول او لوستونکو لخوا لوستول  
 د ژباړې لارښوونې لاندې لوستول او لوستونکو لخوا لوستول  
 (چېرېښه) لارښوونې لاندې لوستول او لوستونکو لخوا لوستول  
 د ژباړې لارښوونې لاندې لوستول او لوستونکو لخوا لوستول.

(س) د ژباړې لارښوونې لاندې لوستول او لوستونکو لخوا لوستول  
 (چېرېښه) لارښوونې لاندې لوستول او لوستونکو لخوا لوستول  
 (چېرېښه) لارښوونې لاندې لوستول او لوستونکو لخوا لوستول  
 د ژباړې لارښوونې لاندې لوستول او لوستونکو لخوا لوستول.

(1) چېرېښه پيژندنې لارښوونې لاندې لوستول او لوستونکو لخوا لوستول؛ 2008؛ لارښوونې



*[Handwritten signature in blue ink]*























